



جس وقت آفتاب کا کنار نکلا نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ
 خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور جس وقت آفتاب کا کنار
 غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی
 طرح غائب ہو جائے اور آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کے
 وقت نماز کا قصد نہ کرو کیونکہ آفتاب شیطانوں-راوی کو
 شک ہے۔ یا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا
 ہے۔“

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ ”جس وقت آفتاب کا کنار نکلا نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور جس وقت آفتاب کا کنار غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح غائب ہو جائے اور آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز کا قصد نہ کرو کیونکہ آفتاب شیطانوں-راوی کو شک ہے۔ یا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔“
 [صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ میں حکم دیا کہ جس وقت آفتاب کا کنار نکلا نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے اور جس وقت آفتاب کا کنار غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ مکمل طور پر غائب ہو جائے اور آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور منع کرنے کا سبب بتایا کہ آفتاب نکلنے اور غروب ہونے کے وقت شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا اور غروب ہوتا ہے، یعنی اس کے سر کے دونوں جانب؛ کیونکہ وہ طلوع آفتاب کے وقت اپنے آپ کو سورج کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلا چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا اسی طرح غروب کے وقت بھی وہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ آفتاب اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہو، چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا اس کا وہ قبلہ ہو جائے گا اسی وجہ سے آپ ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا تاکہ عبادت میں مشابہت نہ ہو۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10562>